

English Translation Test-3

Time Allowed: 40Minutes Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: _____ Batch: _____

LMS ID: _____

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.

(10)

بن زَدگی تهر لوگوں کو پرکھتے رہتے ہیں۔ ہویں دوستوں کی تلاش رہتی ہے ہگر قدم قدم پر دضوی ہلتے رہتے ہیں۔ دوست تلاش کرّا پڑتے ہیں۔ دضوی تُّے تُّائے دستیاب ہیں۔ پھر وہی سوال ذہی کے پردے پر اتھر رہا ہے کہ دضوی آخر ہے کوی۔ ہر اُسای کی زَدگی ہیں تیسویں یا سیکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ ای سة کے ساتھ زَدگی تسر کرّا ہوتی ہے۔ بن تُّہا ہیں جی سکتے۔ اہل خا ہ، رضتہ دار، پڑوسی، اہل علاقہ، رفقائے کار، احثاب اور دوسرے تہت سے لوگ ہواری زَدگی کا حصہ تُّے رہتے ہیں۔ یہ زَدگی تھر کا ہعاہلہ ہے۔ تہت سے لوگ سوجھ ہیں اتے ہگر پھر تھی بن ای سے کُ ار کص ہیں رر سکتے۔ تسا اوقات ہحض ہجثوری یا ہصلحت کے تحت تھی تعلق تھّا پڑتا ہے۔

UROOJ BAHADUR AWAN
28338- E #041.

day / date: 15th JUNE '23

► ENGLISH TRANSLATION TEST #3

TRANSLATION :

We judge people our whole life. We keep looking for friends but find enemies at every step. Friends are to be found. Enemies are available readymade. The question keeps coming to the mind that who actually is the enemy. Everyone has hundreds and millions of people in their life. We have to spend our life with them. We cannot live alone. Family, relatives, neighbours, acquaintances, colleagues, friends, and many other people are a part of our life. This is the course of life. There are many people that we do not understand but we still cannot keep them away from us. Sometimes we have to keep the relationship going only out of expedience or a necessity.

Do not use informal words, such as doesn't, didn't etc.

10